

External Affairs Minister's meeting with State Councilor and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang Yi on the sidelines of G20 Foreign Ministers' Meeting

July 07, 2022

وزیر خارجہ کی جی 20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر سٹیٹ کونسلر اور چین کے وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی سے ملاقات

07 جولائی، 2022

وزیر خارجہ نے جی 20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر 07 جولائی 2022 کو انڈونیشیا کے شہر بالی میں سٹیٹ کونسلر اور چین کے وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی سے ملاقات کی۔

2- وزیر خارجہ نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر تمام بقایا مسائل کے جلد حل پر زور دیا۔ کچھ متنازعہ علاقوں میں پیچھے ہٹنے والے واقعہ کو یاد کرتے ہوئے، وزیر خارجہ نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کو بحال کرنے کے لیے باقی تمام علاقوں سے مکمل پیچھے ہٹنے کی رفتار کو برقرار رکھنے کی ضرورت کو دہرایا۔ انہوں نے دوطرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کی مکمل پاسداری کی اہمیت کا اعادہ کیا اور دونوں وزراء کے درمیان پچھلی بات چیت کے دوران طے پانے والے مفاہمت کی تصدیق کی۔ اس سلسلے میں، دونوں وزراء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں اطراف کے فوجی اور سفارتی حکام باقاعدہ رابطہ برقرار رکھیں اور جلد از جلد سینئر کمانڈرز کی میٹنگ کے اگلے دور کے منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے تعلقات تین باہمی احترام، باہمی حساسیت اور باہمی مفادات کو اپنا کر کے بہترین خدمت انجام دیتے ہیں۔

3- وزیر خارجہ نے مارچ 2022 میں دہلی میں عالی جناب وانگ یی کے ساتھ اپنی ملاقات کو یاد کیا اور اس وقت زیر بحث آنے والے کچھ اہم مسائل بشمول طلباء کی واپسی کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ نے اس عمل کو تیز کرنے اور طلباء کی جلد از جلد واپسی میں سہولت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

4- دونوں وزراء نے دیگر علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ وزیر خارجہ عالی جناب وانگ یی نے اس سال چین کی برکس چیئر شپ کے دوران ہندوستان کی حمایت کی تعریف

كى اور ہندوستان كى آئندہ جى 20 اور شنگھائى تعاون تنظيم كى صدارت كے لئے چين كى حمايت كا يقين دلایا۔ انہوں نے رابطے ميں رہنے پر اتفاق كيا۔

بالى

07 جولائى، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.